

پارہ پندرہ
سورۃ البقرۃ
الرکوع پندرہ (243 - 251)
Root Words.

آیت پندرہ	الف	مادہ Root	معنی	آیت پندرہ	الف	مادہ Root	معنی
243	تَرَ	ر ا ی	تم نے دیکھا	248	تَبَّتْ	ج س م	جسم
	دَيَّارِهِمْ	د و ر	اپنے گھروں سے		تَابَتْ	ت ب ت / ت د ب	تابوت
	الْوَفْ	ا ل غ	پناروں		سَكَنَ	س ک ن	سکینہ
245	يُقْرَبُونَ	ق ر م ن	قریب سے		بَقِيَ	ب ق ی	باقی ماندہ ہے
	فَيَقْبَلُهُ	م ن ع ف	پس وہ بڑھادے اسکو	249	لَحِلَّ	ل ح ل	اٹھائے ہوئے ہونے لگے اسکو
	كَثِيرَةً	ک ث ر	کئی گنا		بِالْجُنُودِ	ج ن د	ساتھ لشکروں کے
	يَقْبِلُونَ	ق ب م ن	لگھاتا ہے / تنگ کرتا ہے		مُبْتَلِيكُمْ	ب ل د	آزمائے والا ہے تم کو
	يَبْقَى	ب س ط	بڑھاتا ہے		بَشِيرٍ	ب ش ر	ساتھ بھرتے
246	الْحَلَا	ح ل ا	سرداروں		اِخْتَرَفَ	خ ر ف	چلو بھرتے
	عَسِيْرٍ	ع س ی	امید ہے تم کو		عُرِفَتْ	ع ر ف	ایک چلو بھرتا
					جَاوَزَ	ج و ز	اس نے پار کیا
					كَلَامَةٍ	ط و ق	کوئی طاقت
					فُتِنَ	ف ت ن	گمراہ
247	سَمِعَتْ	و س ع	سمعت	250	مَنْبِتٍ	م ن ب	وہ نکلے
	اَهْطَفَهُ	م ن ف و	جھون لیا ہے اسکو		بَرَزُوا	ب ر ز	ڈال دیے
	يَسْطَتُ	ب س ط	فراخی کو		اَفْرَغَ	ف ر غ	خالی کر دیے
					ثَبَّتَ	ث ب ت	جماد ہے

پارا ۲
سورة السینة
رُجوع نمبر ۱۶ (251 - 243)
Root Words .

آیت نمبر	الفاظ	مادہ Root	معنی
251	أَقْدَامَنَا	ق د م	قدم ہمارے
	وَالْقُرْنَا	ن م ر	مرد کسے ہماری
	فَهَزْ مُؤْتَمِّمٌ	ه ز م	ہیں اہموز نے شکست
	دَحْجٌ	د ف ع	دے دی ان کو
	نَتْلُوْهَا	ت ل و / ت ل ی	پڑھا نا
	الْحُرْسَلَيْنِ	ر س ل	ہم پڑھنے میں ان کو البتہ رکولوں میں سے ہیں